```
جواب
                                                                                                                                                                                                                                        والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، أما بعد!
                                                                                                                                                                                                                                                                      بنا:
                                                                                                                                                                                               رمگاہ سے نجاست اور گندگی کوپانی، پتھریا پتوں وغیرہ سے صاف کرنااستنجا کہلاتا ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                                          تنجا کرنے کا حکم :
                                                                                                                                                                                                                                 ب، مذی اور یا خانے سے استنجا کرنا واجب ہے۔
                                                                                                                                                                                                                           رصى الله عنها فرماتى مين كه رسول الله الله الله المالية
                                                                                                                                                                                                                                                         رة: 44) (صحح)
                                                                                                                                                                   سے کوئی قشائے حاجت کو جائے تواہینے ساتھ تین ڈھیلے لے جائے اوران سے صفائی کرے ، وہ اسے کافی ہوں گے۔
                                                                                                                                                                                                                                              کس چیز سے استنجا کیا جائے گا؟
                                                                                                                                                                                                                                                                    وغلاه
سیدناسلمان رضی اللہ عنہ سے کوجب کسی نے طزکرتے ہوئے کہا کہ تہمارے نبی نے تم لوگوں کوہرچیز کی تعلیم دی ہے، بیاں تک کہ قضائے حاجت (کے طریقے) کی بھی، توانیوں نے جواب دیا :"باں! (ہمیں سب مجھ سکھایا ہے) آپ طریقینم نے ہمیں منح فرمایا ہے کہ ہم پانانے یا پیشاب کے وقت قے۔
                                                                                                                                                         اگر تین پتھروں سے اچھی طرح صفائی ہو جائے تو ہتر ور نہ اس سے زیادہ استعمال کرہے تاکہ احیجے طریقے سے صفائی ہو جائے۔
                                                                                                                                                                                                                                       براور ہڑی سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔
                                                                                                                                                                                                               الله بن مسعود رضي الله عنه فرماتے میں که نبی اکرم ﷺ بنے فرمایا :
                                                                                                                                                                                                                                                         ية:18) (صحح)
                                                                                                                                                                                                      راوربڈی سے استغانہ کروکیوں کہ یہ تہارہے ہمائیوں (جنوں) کی خوراک ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                                                    نا2ن
                                                                                       ) اللہ عمة فرباتے میں کہ نبی ٹاٹیٹیٹی جب قضائے عاجت کے لیے نطلتے تو میں اورایک اورلڑکا ہے ساتھ پائی کا ایک برتن لے کرآتے ، (راوی حدیث بیشام کستے میں) یعنی رسول اللہ ٹاٹیٹیٹیماس سے استنجا کرتے ۔
                                                                                                                                                                                                                                      (صحیح بخاری ، کتاب الوصوء : 150)
                                                                                                                                                                                                                                                              بة: 108)
                                                                                                                                           ہوا کے خارج ہونے یا نیندسے بیدارہونے کے بعداستغ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکد استغ شرمگاہ سے نجاست زائل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔
                                                                                                                                                                                                                                                        لرنے کے آداب:
                                                                                                                                                                                                         آن واحادیث میں استخاکرنے کے درج ذیل آداب بیان کیے گئے ہیں:
                                                                                                                                                                                                                                                                     <u>1Ĺ</u>
                                                                                                                                                                                                                                                                     Ĺ
```

والله أعلم بالصواب.

<u>-</u>Ž

ناي4-